

Q. 7. Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

استعماریت پسند انگریزی اقدار کے سامنے خوش آمدانہ اور فرما نبدارانہ طرز عمل کے برخلاف، جسے بر طا نوی حکمرانوں نے فراغ دیا تھا اور جسے اپل بند نے اس دور میں اختیار کر رکھا تھا۔ سید احمد خاں اور ان کے اعلیٰ مرتبت اور روشن دماغ فر زند سید محمود دو نوں نے ایسا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ انگریزوں کے مسلموں اور بھرم تھے بون۔ سن ۱۸۶۴ء کے انگریز دربار کا واقعہ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری بندوستانی قوم کو بخوبی معلوم تھا۔ سید احمد خاں نے اس دربار سے اس لیے علیحدگی اختیار کی تھی کہ وباں بندوستانیوں کو انگریزوں کے مقابلے میں کم تر درجے کی نشست فراہم کی گئی تھی۔ اس دربار میں سید احمد خاں کو ایک تمغہ عطا کیا جائے والا تھا۔ بعد میں میرٹھ کے کمشنر ویلیمس کو یہ خدمت تقویض کی گئی کہ وہ علی گڑھ ریلوے استیشن جا کر سید احمد خاں کو تمغہ پیش کر دیں۔

CSE-2021

Translation:

Q: ---

Contrary to the culture of sycophancy and prostrating before the colonial English authority, promoted by the British and freely adopted by the Indians at that time, both Syed Ahmed Khan and his venerated and enlightened son Syed Mahmud treated the English as their equals. In the incident of Agra Durbar ^{in 1867} it was known quite well to the Indians, both Hindus and Muslims, that Syed Ahmed Khan had stayed away from the Durbar because Indians had been given seats inferior to the English. A medal was to be conferred on Syed Ahmed Khan at that Durbar. Williams, the Commissioner of Meerut was later deputed to present the medal to Syed Ahmed Khan at Aligarh Railway station.